

روچگہ بزانت

روچگہ لغوی بزانت: الصيام: دارگہ گۆش آنت۔

اصطلاحی بزانت: الله بندگان کنگ گوں دارگہ (وتہ) چہ ورگہ ء نوشگہ چہ ہما گلیں چیزاں کہ آ روچگہ پُروش آنت، فجرہ بہ گِر داں روچہ بڈگہ۔

روچگہ بُنکی چیز

(۱): نیت کنگ۔ (۲): دارگ وتہ چہ روچگ پُروشوکیں چیزہ۔

نیت تہرہ بند ماں روچگہ بابتہ

(۱): فرضیں روچگہ نیت: فرض روچگہ نیت کنگ شپہ المی آنت، بزاں فجرہ بندات بوگہ چہ پیش، ء نیت گرگ بس آنت گوں ماہہ رمضان بندات بوگہ، ء نیتہ جاہہ دوار دل آنت، گوں زبانہ گوشگ بدعتہ۔

(۲): نفلی روچگہ نیت: روا آنت ہر وھدہ ماں روچہ کجام وھدہ کہ بہ گپیٹ ئے، بلے داں ہما وھدا کہ روچگ پُروشوکیں کارے چہ آئی دستہ چہ نہ بوتگ۔

روچگہ تہرہ بند

(۱): واجب: رمضان روچگ، کفارہ روچگ، نذر بزاں قول ء قرارہ روچگ۔ (۲): نفلی روچگ۔

روچگہ واجب بوگے شرطہ شروط

(۱): اسلام۔ (۲): عقل ء ہوش۔ (۳): بلوغت، (۴) ہما سرید بووکیں گونڈو ء زہگہ ہم روچگ بوگے ہیل دیگ بہ بیت، ء اے کارہ آئی مستریں مردم بہ کن آنت (۴): مردم وتی ہلکہ میتگہ بہ بیت۔ (۵) روچگ دارگ المی نہ آنت بہ مسافرہ، ء روچگ دارگ جواتر آنت اگاں آ بے وار نہ بیت، پرچکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ء ہمے وڈ کنگ،

ء پہ وھد وتی ذمہ واری ادا کنگ ہمشی تہ آنت، ء پہ روچگ داروگہ ارزان تر آنت، ء ماہہ رمضان اجرہ مُزاں ہں گپت گوں۔ (۵): جاں سلامتی ء تندرستی۔

(۶): ماہواریانی تہ ء مہ بیت ء چلگی مدت تہ ء مہ بیت۔

نادراہی ء نا جوڈی ماں روچگہ

ء آئی دو تہر آنت: (۱): ہنچیں نادراہی کہ آئی وش بوگ ئے ہچ اُمیت نیست، ء پھکیں پیرین ء عاجزیں مردم ہں گوں ہمے تہرہ ساب کنگ بیت، گڈا ایشانی سرہ روچگ دارگ المی نہ آنت، بلے آ روچگ نہ دارگہ بدلہ روچے یک غریبہ مسکینہ ء نان بہ وارین آنت، (۲) پہ آئی گچینی آنت کہ اگاں ہمنچو روچ کہ روچگ نہ بوتگ، ہمنچو مسکین مچ بہ کنت ء نان بہ دنت، شام بیت شریا سُبَارک بیت شر، ء یا چتا چتا ورگ بہ ٹھینیت ء چتا چتائیں نا دست رساں ورگ بہ وارینیت ہما نہ داشتگیں روچگانی کساسہ۔

ء ہر مسکینہ ورگ بُوارینیت چارکے چہ صاعہ کہ آئی کساس نیم کیلو ء دہ گرام بیت چہ جوائیں جوہ۔ ء جواتر آنت کہ ہما چیز کہ پہ نارُشتہ گِرادگہ المی آنت آیاں ہم بہ دنت گوں چُش کہ گوشت ء روگن۔ (۲): ہنچیں نادراہی کہ آئی وش ء جوڈ بوگ ئے اُمیت است، بلے نادراہی وھدہ روچگ داشت نہ کنت۔

ہمے وڈہ ماہواری ایوکیں ء چلگ بووکیں ء شیرمیچینوکیں جنین آدم ء مسافر ہمے تہر توکہ کاینٹ گوں،

گڈا اے وڈین مردم وتی روچگانی بدلاں وش بوگہ چہ رند ء چہ مسافرہ رند بہ دار آنت۔ (بلے اگاں یکے ہمے وھداں بیران بوت، پیش چہ ایشیا کہ آ وش بہ بیت یا چہ آ ہاسیں ہالتاں در بہ ایت، گڈا آئی سرہ بدل دارگے حکم پُرشیت ء ساقط بیت۔

گون کجام چیزاں ماہہ رمضان بندات بوگ زانگ بیت؟

ماہہ رمضان بندات بوگ چہ اے چیزاں پندر بیت:

(۱): گون نوکہ گندگہ۔ (۲): یا ماہہ شعبانہ سی ئیں (۳۰) روچانی توام بوگہ چہ۔

روچگ پُروشوکیں چیز

(چہ ایشاں نا زانت ء شموشکار ء لاچار گتگیں مردم ساب کنگ نہ بنت، بزاں ایانی روچگ نہ پُرشیت)

(۱): پہ زانت ورگہ نوشگ، اگاں ہر کسیہ پہ شموشکاری وارت آئی روچگ نہ پُرشیت۔

(۲) وپتہ واب کنگ (ہمبستری) ماں روچہ رمضانہ ماہہ، ء روچگ دارگ آئی سرہ فرض بہ بیت۔

گڈا آئی سرہ کفارہ کیت، ء آ ہمیش آنت کہ آیک غلامہ آجو بہ کنت، اگاں غلام نہ بوت، گڈا روچگ بہ دارپت دو ماہہ پد ماں پدہ، اگاں اے وڈ کت ئے نہ کت، گڈا شست (۶۰) مسکینہ نان بہ وارینیت۔

(۳): مرزی (منی) درایگ گوں وپت ء واب کنگہ، یا پہ چک لیسہ، یا ہورہ تور بوگہ، یا چہ ہمے پیمیں چیزہ۔

(۴): ء ہما چیز کہ آجو نان ء آہہ طاقت دنت، پہ درور: طاقتی سچن ء ڈرپ کہ آ انسانہ طاقت مان کنت۔

بے طاقتی ئیں سچن روچگہ نہ پُروشیت۔

(۵): ہون درایگ چہ حجامہ کنگہ، بلے پہ کمیں ہون درایگہ روچگ نہ پُرشیت، پہ درور: ہونہ زورگ پہ ٹیست ء چکاس واستا۔

(۶): پہ زور ء زانت شانگ۔ (۷): ماہواریانی آیک ء چلگ بوگ۔

روچگہ سنت

(۱): سحر کنگ۔ (۲): گڈی وھدہ سحر کنگ۔ (۳): زوت دبوچ کنگ۔ (۴): دپہ بوچگ گوں تازئیں نا ء ہرماگہ

، اگاں تازئیں نہ بوت گوں ہنچیں نا ء ہرماگہ، ء ایک آ تا بہ بنت، اگاں ہرماگ نہ بوت، گڈا گوں لہنے گٹ

آہہ، اگاں ہچ چیز نہ بوت گڈا دلہ دپ بوچگہ نیتہ بہ کنت۔ (۵): دُعا لوٹگ دبوچہ وھدہ ء روچگی بے میانہ۔

(۶): گیشہ چہ گیش ہیرات ء صدقہ کنگ۔ (۷): تراویح ء تہجد وانگ۔ (۸): قرآن پاکہ وانگ۔ (۹): عمرہ کنگ۔

(۱۰): ء اے گپے گوشگ کہ [مَن روچگ اں] پہ ہما مردمہ کہ ترازا ء بد کنت۔ (۱۱): شپہ قدرہ شوہاز

کنگ۔ (۱۲): اعتکافہ بندگ ماں رمضان ء گڈی دھیں شپاں۔

روچگہ مکروہ ء جائزیں چیز

مکروہیں چیز: (۱): گُلگُل ء پونزہ آب مان کنگے توکہ زیاتی کنگ، (بزاں سک دُور راہ دیگ)۔ (۲): ورگہ چشگ بے حاجتہ۔

روائیں چیز: گجانی ایر بَرگ، ورگہ چشگ ماں ہما وھدہ کہ چشگ المی آنت، جان شوڈگ، مزواک جَنگ، و شبو جَنگ، ء وتہ سارتی توکہ کنگ۔

روچگہ نا روائیں چیز

(۱): بلغم ایر بَرگ، (بلے روچگ نہ پُرشیت)۔

کنگ ہم سنتِ اِنت، ءُ سنتِ ہمیش اِنت کہ نمازِ رَوَگے راہ دگرے بہ بیت ءُ آیکے دگر۔

ءُ ائیدے مراد باتِ دیگے پرواہ نیست ایکہ آ بہ گوشتیت کہ اللہ منے ءُ شمسے عملان قبول بہ کنت۔

ءُ ائید شپے سنتِ ہمیش اِنت کہ مردم تکبیر بہ وانیت ءُ ہمے پیمے ائیدے روچے ءُ کلین نمازانی رندے دان مغربے۔

ءُ تکبیراے وڈے اِنت: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا اِله اِلا اللہ، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔

ءُ ائیدے نماز اے وڈے وانگ بیت: دو رکعات وانگ بیت چہ ائیدے خطبے پیش، ءُ اولی رکعتے چہ تکبیرے

تحریمے چہ رند شش رندے اللہ اکبر بہ گوشتیت، ءُ دومی رکعتے چہ الحمدے وانگے پیش پنج رندے اللہ اکبر بہ گوشتیت ابید چہ قیامے تکبیرے۔

بیت دان دومی رمضانے، اگان بے عذرة دیرے داشت اِنت ئے (بزاں دومی رمضانے آیکے چہ رند) گڈا آئیے دگہ گیشیں روچگ دارگ نہ لوئیت بلے ا گناہ کار لیکگ بیت۔

سَر ساه، بزاں زکاتِ الفطر

زکاتِ الفطر بزاں سَر ساه المی ءُ واجب اِنت بہ ہما کلین مسلمانان کہ آیاں رمضانے گڈی روچ گپتگ گون (بزاں اگان گونڈو رمضانے گڈی روچے اگان پیداک بہ بیت ہم آئیے سَر ساه پر بیت)، ءُ سَر ساه ءُ دیگ ءُ

جوانتریں وهد ہمیش اِنت کہ ائیدے نمازے چہ پیش دیگ بہ بنت، یا ائیدے شپے، ءُ یک صاعے دیگ بہ بیت ءُ آ کساس دو کیلو ءُ چل گرام اِنت، ءُ ائیے بہ کشیت وتی ءُ وتی چُکانی نیمگے، ءُ سَر ساه کشگ ہما چُکے کہ انگت لاپے اِنت، سنت اِنت، المی ءُ واجب نہ اِنت۔

سَر ساه کشگے حکمت

(۱): روچگ داروکه رمضانے ماہ توکے گسانیں کتگیں گناہانی پاک کنگے سوب بیت۔

(۲): ءُ بے حاجت کنت نا دسترس ءُ مسکینان چہ دست شہاریے ماں ائیدے روچے۔

سَر ساهانی کشگے وهد

(۱): روا ءُ جائز اِنت سَر ساهانی کشگ ائیدے چہ یک ءُ دو روچ پیش۔ (۲): سنتے وهد ہمیش اِنت کہ فجرے نمازے چہ رند ءُ ائیدے نمازے چہ پیش دیگ بہ بنت۔

(۳): ائیدے نمازے چہ رند سَر ساه کشگ ناجائز ءُ حرام اِنت۔

چنچک سَر ساه کشگے دیگ بہ بیت

یک صاعے چہ ہما وردنی چیزاں کہ مردم چن اِنت ءُ ایر اِش کن اِنت، ءُ نقد ذر روا نہ بیت۔ (ءُ یک صاعے کساس دو کیلو ءُ چل گرام بیت چہ جوانین ءُ شریں جَوے۔

ائیدے نماز

ائیدے نماز وانگ گُلانی سرے فرض اِنت، ءُ آئی وانگے وهد یک گوازے روچے در آیکے چہ رند اِنت،

ءُ اگان یکے پشت کپت گڈا ائیدے نمازے قضائی وانگ نہ بیت۔ ءُ سنت ہمیش اِنت کہ ائیدے نماز ماں پت ءُ میدانے وانگ بہ بیت، چہ لوگ ءُ گساں دُور، ءُ مسیت توکے ہم وانگے روا ءُ جائز اِنت۔ ءُ چہ ائیدے نماز وانگے پیش سے دانگ نا ءُ ہر ماگ ورگ سنت اِنت ءُ ہمے پیمے جان شودگ ءُ وشبو جَنگ ءُ نوکیں پُچ گورے

(۲): چُکگ بہ ہما مردمے کہ آ پدا وتے داشت نہ کنت، بزاں وتی روچگے پُروشیت۔ (۳): دُروگ بندگ، (ءُ دُروگ بندگ ہر وهدے حرام اِنت)۔ (۴): نا زاننی ءُ نا سریدی ءُ زیاتی کنگ مردمانی سرے۔ (۵): روچگ دارگ دو روچ یا چہ دو ءُ گیش بے دبوچے۔

نفلی روچگ

(۱): سوالے ششیں روچانی روچگ دارگ بہ ہمایاں کہ رمضانے روچگ اِش پھکے داشتگ اِنت، ءُ جوانتر ہمیش اِنت اے روچگ پد ماں پدے دارگ بہ بنت، چہ

ائیدے دومی روچے بندات اِش بہ کنت۔ (۲): عرفے روچے روچگ دارگ بہ ہمایاں کہ حجے نہ شوتگ اِنت۔ (۳): عاشوراءے روچے روچگ دارگ، بزاں

مُحرمے ماہ دہے روچگ دارگ گون ٹھمی روچے یا یازدھمی روچے۔ (۴): دو شنبہ ءُ پنج شنبہ روچگ بوگ، دو شنبہ روچے روچگ دارگے گیشتر سبکین

دیگ بوتگ۔ (۵): ہر ماہ سے روچ روچگ بوگ، ءُ سنت ہمیش اِنت ہر ماہے ۱۳ ءُ ۱۴ ءُ ۱۵ ءُ روچ روچگ دارگ بہ بنت، ءُ اے روچاں گوش اِنت ایام البیض۔

(۶): روچے روچگ بوگ ءُ روچے دپ پچ بوگ۔ (۷): ماہے مُحرمے روچگ دارگ۔ (۸): ذوالحجہ ءُ ماہے

ٹھمی روچے روچگ دارگ۔ (۹): ماہے شعبانے روچگ دارگ، بلے کلین ماہے نا۔

مکروہین روچگ

جُمعہ یا شنبہ یا یک شنبہ روچے روچگ دارگ، بلے اگان اے روچانی روچگ دارگے یک سوبے بوت گڈا روچگ داشت کنت، چشکہ عرفے روچے ہمے روچانی

توکه بہ کپیت۔

ناروا ءُ حرامین روچگ


(۱): رجبے ماہے ہاس کنگ بہ روچگ دارگے۔ (۲): شکی ئیں روچے روچگ دارگ۔ (۳): دُوبن ائیدانی روچے روچگ دارگ، (۴): مَزَنیں ائیدے سے

ئیں روچانی روچگ دارگ (ایام التشریق) ابید چہ ہما مردمے کہ آئی ءُ بہ حج واستا قربانی گت نہ کتگ، گڈا

آ اے سے ئیں روچاں روچگ داشت کنت۔ (۵): پھکیں سالان روچگ بوگ۔

ءُ بدلی روچانی روچگ دارگ توکے سنت ہمیش اِنت کہ پد ماں پدے دارگ بہ بنت، ءُ جوانتر ہمیش اِنت کہ

ائیدے دومی روچے چہ بندات کنگ بہ بنت، ءُ روا نہ اِنت کہ بدلی روچگانی دارگے دیر کنگ بہ



WWW.ATTASSEEL-ALELMI.COM